

بینک الحیب لمیٹڈ
شیڈیول آف چارجز
(اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2026 تا 30 جون 2026

بین الاقوامی بینکاری

A. درآمدات

I کیش لیٹرز آف کریڈٹ

AA۔ اوپننگ

سالانہ حجم تقویمی سال کے دوران کاروباری تعہد:

a۔ 10 ملین روپے تک

b۔ 10 ملین روپے سے زائد سے 100 ملین تک

c۔ 100 ملین سے زیادہ

پہلی سہ ماہی	اس کے بعد ہر سہ ماہی کے اختتام پر یا کچھ حصے میں
0.40 فیصد	0.25 فیصد
0.30 فیصد	0.20 فیصد
0.17 فیصد	0.10 فیصد

کم از کم 2500 روپے

نوٹ: مندرجہ بالا چارجز، (کاروباری فوائد/ معاہدوں کے سلسلے میں ہونے والے ایڈجسٹمنٹ جو کہ مجاز عہدے دار سے منظور شدہ ہو)، سے مشروط ہیں۔

AB۔ زائد المعاد ایل سیز کی توثیق نو یا نئے ہینڈشری کو منتقل کرنا

II ترامیم:

a۔ اگر رقم اور/ یا مدت ملوث نہ ہو

b۔ اگر رقم اور/ یا مدت میں اضافہ ملوث ہو

III ایل سی کی منسوخی کے چارجز

IV ریٹائرمنٹ:

1 ایل سی مرابحہ پر بروقت منافع (ذاتی ذریعے سے ایل سی کی سبکدوشی)

2 یوزینس بلز:

وقت ادائیگی پر

درج بالا AA-I کے تحت وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

1800 روپے (فلیٹ)

1800 روپے اور کمیشن درج بالا AA-I کے مطابق

2500 روپے علاوہ سوئفٹ چارجز

کم از کم 100 روپے

درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم

از کم 1500 روپے وصول کیے جائیں گے۔

فی بل 1250 روپے۔ زائد کمیشن (منسلک ایکٹو رائے کے مطابق) پہلے سے وصول

شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد کم از کم 1250 روپے

فی بل 2000 روپے (فلیٹ)

درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم

از کم 1500 روپے وصول کیے جائیں گے۔

ایل سی / معاہدہ کے تحت یوزینس بلز کی معیاد ادائیگی میں اضافہ

3 سائٹ:

PAD 4 پر لوکل ایل / سی سائٹ پر منافع

a۔ 01 سے 20 دن تک

b۔ اگلے 21 سے 35 دن تک

c۔ 35 دن سے زائد لاجسٹ کے بعد

V وصولی کے لیے انورڈ / غیر ملکی دستاویزی بلز:

a۔ تمام انورڈ / کلکشن / اوپن اکاؤنٹ / ایف او سی کیسز پر بینڈ لنگ چارجز

b۔ بنادائیگی، واپس کیے دستاویزات / بشمول کوریئر چارجز

c۔ تمام غیر ملکی بلز کی وصولیا بشمول معاہدہ ادائیگی / ریٹائرمنٹ / اوپن اکاؤنٹ

3 ماہ کا اوسط KIBOR(ASK) + 3% سالانہ

3 ماہ کا اوسط KIBOR(ASK) + 4% سالانہ

3 ماہ کا اوسط KIBOR(ASK) + 5% سالانہ

1700 روپے

فارورڈنگ بینک کی جانب سے یو ایس ڈالر 100 (یا اس کے برابر کی غیر ملکی کرنسی)

درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کے حساب سے کم از کم

1500 روپے وصول کیے جائیں گے

1000 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر Va، Vb اور Vc پر لاگو ہیں۔)

1500 روپے

500 روپے

0.15% فیصد - کم از کم 1500 روپے علاوہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر / سوئفٹ چارجز

d سوئفٹ چارجز

VI درآمدات کے مقابل بیٹنگی ادائیگی

a۔ سوئفٹ ٹرانسفر

b۔ ڈیمانڈ ڈرافٹس

c۔ سروس چارجز

ii۔ اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ شامل ہو

والی آمدنی کے عوض ہینڈ لنگ اور سروس چارجز

2

XIX اور ڈیو ایکسپورٹ بلز رپورٹنگ کی بینڈ لنگ اور سروس
XX ایکسپورٹ ری فنانس درخواستیں / ای۔ ای ایف ایس (ایگزیم بینک) کیلئے بینڈ لنگ چارجز 1250 روپے فی سیمینٹ / درخواست
XXI ڈیوٹی ڈرائیج کلیمز کی بینڈ لنگ (ڈی ایل ٹی ایل) / ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل 100 روپے فی شینٹ / فی ٹرانزیکشن
بینڈ لنگ چارجز (انکر میٹھل اسکیمز)

XXII گندم، گندم کے آٹے، شکر اور ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل اور دیگر سبسڈیز کی برآمدات پر 1000 روپے فی کیس
سبسڈی کلیمز کی بینڈ لنگ

XXIII کلیمیشن دستاویزات کے بارے میں بات چیت کے لئے دیگر بینکوں کے نام 750 روپے
برآمد کے این او سی کا اجراء / ای ایف ایس کی دیگر بینکوں کو منتقلی

XXIV بی / ایل سے سبکدوش ہونے پر / بی ایل کی گمشدگی پر شپنگ کمپنیوں کو این او سی کا اجراء 1200 روپے فلیٹ

XXV دوسرے بینک کو برآمد کی کارروائیوں کی منتقلی، جہاں ہماری جانب سے کسی دستاویزات 1500 روپے بمعہ سونفٹ چارجز
کی بینڈ لنگ نہیں کی گئی

XXVI ایل ٹی ایف ایف (ایس بی پی) درخواستوں کی بینڈ لنگ 2000 روپے فی کیس

XXVII ایکسپورٹ ڈاکومنٹ ریٹرن کی عدم ادائیگی پر 1500 روپے

XXVIII ایکسپورٹ ایڈوانس جیمینٹ کے چارجز، ایسی صورت میں جن میں اسٹیٹ بینک 1000 روپے

آف پاکستان کی منظوری کے ایک سال کے سے ای فارم کی تصدیق ہو

XXIX ایف آئی کے اجراء کی تاریخ کے 45 دن بعد تینخ شدہ ایف آئی
XXX ڈپازٹس کی ایکسپورٹ / فارن کرنسی نوٹ جمع کرانے کے عوض چارجز

XXXI ایکسپورٹ پروسیڈر نیلا تزیین سرٹیفکیٹ (ای پی آر سی) کا اجراء 600 روپے

XXXII ایکسپورٹ کے عوض ایف آئی انسٹرومنٹ بنانا 125 روپے فی درخواست

XXXIII روپے کی بنیاد پر ڈسکاؤنٹ ایس بی پی لون پراسیڈنگ چارجز 1250 روپے فی سیمینٹ / درخواست
C۔ وصولی (غیر ملکی کرنسی)

I بیرونی

a۔ کلین بلز

b۔ بنا دادائیگی واپس شدہ چیکس

c۔ مقامی یو ایس ڈالر کی وصولی

d۔ مقامی یو ایس ڈالر کی وصولی کے واپس شدہ چارجز

II انورڈ

کلین کلیمیشن

یو ایس ڈالر 10 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی علاوہ کوریئر چارجز
ریٹرننگ بینک کے اصل چارجز علاوہ یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی
یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی فی انسٹرومنٹ
یو ایس ڈالر 6 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی فی انسٹرومنٹ

یو ایس ڈالر 10 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی علاوہ اصل چارجز

D۔ ترسیلات - غیر ملکی

I آؤٹ ورڈ

a. فارن دیمانڈ ڈرافٹ FDD

b۔ سونفٹ / TT

یو ایس ڈالر 20 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں گے، اگر
تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم تک بینک کے ساتھ میٹھیں نہ کیا
جائے یو ایس ڈالر 40 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں
گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم تک بینک کے ساتھ میٹھیں نہ
کیا جائے

یو ایس ڈالر 10

یو ایس ڈالر 6 علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

c FDD کی منسوخی

d FDD/FTT کی ادائیگی روکنا

II اندرونی

a۔ ڈی ڈی / ایل ٹی / ایم ٹی

کوئی چارجز نہیں

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس / کوریئر / پوسٹ / فیکس / سونفٹ چارجز بھی جب اطلاق ہوں تب
وصول کئے جائیں گے۔

E۔ متفرقات:

I خطوط کے چارجز

II پونج / کوریئر / سونفٹ چارجز کی وصولی کی تفصیلات درج ذیل کی جائیگی:

اصل

200 روپے

i۔ اصل

ii۔ جہاں کمپنی کی جانب سے صارف کے اکاؤنٹ سے براہ راست کوریئر چارجز کی کٹوتی کی جائے تو بطور سروس چارجز 150 روپے وصول کئے جائیں گے

پونج

کوریئر

1000 روپے فی پیغام

سونفٹ

اصل بمعہ 500 روپے پراسسنگ فیس

1500 روپے فی کیس

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز پر کریڈٹ رپورٹ

IV کسٹمر کی درخواست پر ایف ایکس ٹرانزیکشنز / ٹریڈ ٹرانزیکشنز / یا دیگر مقصد کیلئے ایس بی پی کی منظوری

حاصل کرنا

یو ایس ڈالر 5 فی ہدایت مع ری میٹنس چارجز

V فارن کرنسی اکاؤنٹ کیلئے مستقل ہدایت

اندرون ملک بینکاری

A۔ ترسیلات زر:

a۔ بینکرز چیک کا اجراء

550 روپے (تعلیمی اداروں / ہائر ایجوکیشن کمیشن / بورڈز وغیرہ کے نام بینکرز چیک / ڈی

ڈی / ادائیگی کیلئے دیگر متعلقہ انسٹرمنٹس کی کوئی فیس / واجبات نہیں ہے)

بینکرز چیک چارجز میں رعایت حاصل کرنے کے لیے صارفین کو اوسط

ماہانہ 25000 روپے کا ٹیلنس برقرار رکھنا ضروری ہے

b۔ ایم ٹی، ٹی ٹی، ٹی ٹی کا اجراء

0.12 فیصد - کم از کم 225 روپے

150 روپے

200 روپے فی آئٹم

کوئی چارجز نہیں

کوئی چارجز نہیں (اندرون اور بیرون شہر)

i۔ ہمارے خطوط کے ذریعے وصولی پر ادائیگی

c۔ فیکس / ٹی ٹی پر سونفٹ چارجز

d۔ پونج

e۔ منقلی بذریعہ آئی بی سی اے (IBCA)

f۔ آن لائن کیش جمع کرنا / رقم نکلوانا

600 روپے

600 روپے

II ڈی ڈی / پی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

B۔ اندرون ملک تجارت

I اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ

(i) ایل سی کھلنے کا کمیشن

(ii) لوکل ایل / سی کے تحت ادا کیے گئے بلز کی ریٹائرمنٹ

II اندرون ملک ناقص ایل سی دستاویزات کی تصحیح (درستگی) کے چارجز

III ایل سیز میں ترمیم

a۔ اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو

b۔ اگر مدت شامل ہو

c۔ اگر رقم میں اضافہ شامل ہو

0.50 فیصد فی سہ ماہی اور بعد کی سہ ماہیوں کے لیے 0.35 فیصد کم از کم 2000 روپے

ریٹائرمنٹ پر 0.05 فیصد

1500 روپے

1500 روپے

1500 روپے علاوہ کمیشن 0.35 فیصد بعد کی فی سہ ماہی کے لیے

جیسا کہ اوپر (b) میں بیان کیا گیا ہے۔

IV ایل/سی کی منسوخی کے چارجز

1500 روپے مع سوئفٹ چارجز

V ریٹائرمنٹ

- a- اسپاٹ لوکل ایل/سی ٹرانسفر پر منافع (لوکل ایل/سی جو اپنی ذاتی قوم سے ریٹائر کی جائے) 100 روپے کم از کم
- b- لوکل ایل/سی کے تحت ڈرا کئے بلز کی ریٹائرمنٹ
- c- پینس بلز
- میچورٹی پر

500 روپے فی بل + اضافی کمیشن (جیسا کہ منسلک ایٹکٹورے - 1 میں دیا گیا ہے) اور یہ چارجز ایل/سی کمیشن کی پہلے سے وصول شدہ مدت کے بعد لاگو ہوں گے، کم از کم 500 روپے۔

PAD 4 پر لوکل ایل/سی سائٹ پر منافع*

*) (جو صارفین فنڈ فیسلٹی استعمال کر رہے ہیں اُن پر انہی سہولیات کے مقررہ ریٹس لاگو ہوں گے)

3 ماہ کا اوسط KIBOR(ASK) + 3% سالانہ

a- 01 سے 20 دن تک

3 ماہ کا اوسط KIBOR(ASK) + 4% سالانہ

b- اگلے 21 سے 35 دن تک

3 ماہ کا اوسط KIBOR(ASK) + 5% سالانہ

c- 35 دن سے زائد لاجسٹک کے بعد

VI وصولیاں

0.4 فیصد کم از کم 1000 روپے علاوہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

0.25 فیصد کم از کم 350 روپے، زیادہ سے زیادہ 1100 روپے علاوہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

250 روپے

a- دستاویزی (IDBC اور LDBC)

b- کلین (بشمول چیکس)

c- رجسٹریشن / اسٹینڈرڈ پریچر آرڈر کی (S.P.O) ادائیگی پر انتظامی چارجز

500 روپے

VII بغیر ادائیگی واپس شدہ مقامی بلز

VIII متفرق چارجز : درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہوں (درج بالا V-I) درج

ذیل زائد چارجز ہوں گے:

a- وصول کرنے والے کے بینک چارجز (اگر وصول کرنے والا بینک، بینک الحیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو)

50 روپے

b- بذریعہ فون / فیکس انسٹرمنٹس کی معلومات

c- انسٹرمنٹ واپس کرنے کے چارجز

200 روپے علاوہ پوسٹ / کوریئر چارجز

50 روپے علاوہ پوسٹ / کوریئر چارجز

50 پیسے فی دن فی پیکٹ، کم از کم 50 روپے

i- دستاویزات کی وصولی کے لیے

ii- کلین وصولی کے لیے

d- اسٹورج کرنے کے چارجز

e- کوریئر چارجز:

60 روپے

i- بینک الحیب کی برانچوں کے لیے

125 روپے

ii- دیگر بینکوں کے لیے

C- فنانسنگ / ایڈوانسز

I منافع بشمول درج ذیل اضافی چارجز لیے جائیں گے:

- منصوبے پر عمل درآمد اور جائزہ فیس

- قانونی اور انتظامی فیس

- متفرق چارجز (سیکیورٹی اور مینٹیننس کا جائزہ)

II رہن / ہائپر میکیشن پرفنانس کے لیے

درج ذیل نافذ ہو سکتے ہیں:

a- گودام کا کرایہ

b- گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم چارجز

c- گودام کے معائنے کے چارجز:

i- شہری حدود کے اندر

ii- شہری حدود کے باہر

d- رہن کے تحت تمام اشیاء پر ڈیلیوری آرڈر کا اجراء

صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر اصل پر یا صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر اصل پر یا صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر

پیشگی انتظام کے مطابق

اصل

اصل

اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 400 روپے

قوانین کے مطابق فی اے اور ڈی اے علاوہ 400 روپے

100 روپے فی ڈیلیوری آرڈر

- e۔ اسٹاک کا معائنہ: (بینک کے ذمہ نہیں ہے)
 i اگر یہ معائنہ بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں
 ii اگر یہ معائنہ بینک کا اسٹاف کرے
 i شہری حدود کے اندر
 ii شہری حدود کے باہر

اصل

1500 روپے
 3000 روپے فی معائنہ (30 سے 45 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ معائنہ)
 نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/ایکسٹرنل آڈیٹرز کی جانب سے گودام پر بھی بھارا چانک
 معائنے کی صورت میں چارجز نہیں ہونگے
 اصل

- f۔ (i) دیگر ضمنی اخراجات، بیمہ کا پرمیئم
 (ii) قانونی چارجز:
 . اندرونی قانونی معاونت:

2000 روپے فی دستاویز
 500 روپے
 اصل

. جائیداد کی دستاویزات کی نظر ثانی
 . دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سکیورٹیز پر استحقاق کی نوٹنگ
 . بیرونی قانونی معاونت:

450 روپے فی ڈیوری
 اصل
 10,000 روپے فلیٹ فی این اوسی

g. تمام پیچ گڈز پر ڈیلیوری آرڈر چارجز
 CIB III رپورٹ چارجز
 IV مزید پروجیکٹس کیلئے اسکلے فکسڈ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی/مساوی چارجز/
 سیکنڈ چارج صارفین/کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء (صارف کی درخواست پر)
 V اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹرار کے پاس جانا ہو تو ایسی صورت میں
 ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی

-/2500 روپے فلیٹ فی جائیداد بشمول قانونی/وینڈر فیس

اصل

VI سکیورٹی آف ایجنسی (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن/ترمیم/سیٹیفیکیشن/ویکیشن
 آف چارج اور ڈائریکٹر/چارج سرج/سی سی وغیرہ
 VII کنٹرول اینڈ سکیورٹی دستاویزات پر اسٹیمپ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیمپ ڈیوٹی ایکٹ کے
 مطابق

11,000 روپے
 25,000 روپے
 70,000 روپے
 80,000 روپے
 100,000 روپے
 اصل
 اصل

D۔ کارپوریٹ کریڈٹ پروسیجرنگ چارجز
 (i) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت نیا/تجدید شدہ
 50 ملین روپے تک کے قرضے
 50 ملین روپے سے زیادہ 100 ملین روپے تک
 100 ملین روپے سے زیادہ 250 ملین روپے تک
 250 ملین روپے سے زیادہ 500 ملین روپے تک
 500 ملین روپے سے زیادہ

اصل

(ii) دستاویزات کا چارجز
 (iii) معائنے کے چارجز (سکیورٹی کے سامان کیلئے)

3,000 روپے
 3,500 روپے
 5,000 روپے
 10,000 روپے
 20,000 روپے
 30,000 روپے
 50,000 روپے
 کوئی نہیں
 اصل
 اصل

E. کمرشل کریڈٹ پروسیجرنگ چارجز
 (i) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت نیا/تجدید شدہ
 2 ملین روپے تک کے قرضے
 2 ملین روپے سے زیادہ 5 ملین روپے تک
 5 ملین روپے سے زیادہ 10 ملین روپے تک
 10 ملین روپے سے زیادہ 20 ملین روپے تک
 20 ملین روپے سے زیادہ 50 ملین روپے تک
 50 ملین روپے سے زیادہ 100 ملین روپے تک
 100 ملین روپے سے زیادہ

کوئی نہیں
 اصل
 اصل

(ii) اضافہ/کمی/ای او ایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع
 (iii) دستاویزات کا چارجز
 (iv) معائنے کے چارجز (سکیورٹی کے سامان کیلئے)

5,000 روپے فلیٹ
 کوئی نہیں
 اصل

F. چینل فنڈنگ پروسیجرنگ چارجز
 (i) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت نیا/تجدید شدہ
 (ii) اضافہ/کمی/ای او ایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع
 (iii) معائنے کے چارجز (سکیورٹی کے سامان کیلئے)

G. اسامال اینڈ میڈیم اینٹرپرائزز (ایس۔ ایم۔ ای) پروسیڈنگ چارجز

(i) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت نیا/تجدید شدہ

10 ملین روپے تک

10 ملین روپے سے زیادہ

(ii) دستاویزات کا چارجز

(iii) معائنے کے چارجز (سیکیورٹی کے سامان کیلئے)

H. زرعی فنانس جات پروسیڈنگ چارجز

(i) تمام نئے/تجدید شدہ فارم اور نان۔ فارم فنانس

1.5 ملین روپے تک کے قرضے

1.5 ملین روپے سے زیادہ 3 ملین روپے تک

3 ملین روپے سے زیادہ

(ii) دستاویزات اور پروسیڈنگ چارجز

(iii) پراپرٹی کی مالیت کے چارجز

(iv) پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی (پی ایل آر اے) سروس چارجز (صرف پنجاب میں)

(v) سیکیورڈٹ رائٹنگ

رجسٹری (ایس بی آر) میں سیکیورٹی انٹرسٹ کی رجسٹریشن کیلئے فیس بشمول ابتدائی، ماڈیفیکیشن،

ٹرینیشن چارجز وغیرہ

I. کمرشل ویکل فنانسنگ

i پروسیڈنگ فیس

ii دستاویزات کے چارجز

iii نوٹس کی نقل از وقت خریداری کے چارجز

iv اضافی تحجینے کے چارجز

v تحجینے کے چارجز۔ گاڑی کی دوبارہ قبضہ

vi چیک واپس ہونے پر چارجز

vii گاڑی کی رجسٹریشن/تفکلی کے چارجز

viii دوبارہ قبضہ کے چارجز

ix گاڑی کا ٹیکس

x قانونی چارجز

J. مراہجہ/مساومہ/اجارہ

(i) کارپوریٹ مراہجہ/مساومہ/اجارہ ڈاکو میٹیشن اور پروسیڈنگ چارجز

(ii) معائنے کے چارجز (سیکیورٹی کے سامان کیلئے)

نوٹ: AAOIFI: معیارات کی تعمیل کرنے کے لیے، یہ چارجز صرف مراہجہ/مساومہ کی سہولت حاصل کرنے والے صارفین/کلیئر پر لاگو نہیں ہوں گے۔

K۔ ضمانتیں

I. ایل آف ایڈنگ / ایئر کنسائنمنٹ ٹوٹس کے بدلے میں شپنگ کمپنیز / ایئر لائنز کو جاری کردہ ضمانتیں

II ڈوبی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلیئر کو جاری کردہ ضمانتیں

III دیگر ضمانتیں

IV برآمدی آمدنی پروڈولنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ ضمانتیں

V ضمانتی خط کے متن میں ترمیم (اگر رقم اور مدت وہی رہے گی)

SWIFTVI ایل جی ایڈوانسنگ چارجز کی وصولی

VII الیکٹرانک بینک گارنٹی کے اجراء کے لئے سوئفٹ چارجز

نوٹ:

۔ رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہوں گے۔

۔ ضمانت جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر ضمانت کی میعاد ختم ہونے تک گارنٹی کمیشن وصول کیا جائے گا

L۔ کیش منیجمنٹ سروسز

i۔ ملک بھر میں کیش سولیشنز

ii۔ بلک سیلیریز/ادائیگیاں

iii۔ ڈیوڈنڈ وارنٹس کی ادائیگی کا انتظام

iv۔ کسٹمرز ڈائیم آئی ایس / رپورٹنگ

v۔ دیگر کوئی بھی شریعت پر مبنی سرگرمی

vi۔ الحبیب پیمنٹ سسٹم (بلک پیمنٹس)

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

معاهدے کے مطابق

5,000 روپے

0.05 فیصد زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے

اصل

اصل

2,500 روپے

4,000 روپے

منظور شدہ رقم کا 0.1 فیصد زیادہ سے زیادہ 18,000 روپے

اصل

اصل

اصل

اصل

9000 روپے فی ویکل

اصل پر

خریدے جانے والی نوٹس کی قیمت کا 1 فیصد

اصل پر

اصل پر

850 روپے

اصل پر

اصل پر

اصل پر (صارف ادا کرے گا)

اصل پر

اصل پر

اصل پر

اصل پر

2000 روپے فلیٹ

’انیکوربی۔ 1‘ کے مطابق منسلک قابل اطلاق سلیب کے مطابق

’انیکوربی۔ 2‘ کے مطابق منسلک قابل اطلاق سلیب کے مطابق

500 روپے فلیٹ

ترمیمی چارجز 1300 روپے

1,000 روپے بشمول ایف ای ڈی

1000 روپے

M متفرق چارجز

- 1- چیکس کی ادائیگی روکنا
- 2- بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس کر دیئے جائیں
- 3- اسٹیٹنگ انسٹرکشن چارجز (پیشتر اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں)
- 4- صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفکیٹ کا اجراء
- 5- صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجراء (اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹیٹمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)
- (i) 6 ماہ تک کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
- (ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
- 6- اسی دن چیکس کلیئر ہونے کے چارجز
- 7- اسی دن چیکس کلیئر کرنے پر رقم ہونے کی صورت میں واپس کرنے کے چارجز
- 8- آن لائن چیک واپس ہونے پر چارجز
- 9- ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں
- 10- ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء
- 11- CDC چارجز
- 12- چیک بک کے چارجز
- 13- اسٹیٹمنٹ / کسٹمر ڈیجیٹل بک
- 14- اکاؤنٹ میینٹیننس سرٹیفکیٹ
- 15- انسٹری چیکس کی وصولی بذریعہ این نفٹ
- 16- بیرون شہر، چیک کی واپسی کے چارجز
- 17- ایس ایم ایس الٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)
- 18- سی ڈی آر کے اجراء کے چارجز
- 19- سی ڈی آر کی ڈوپلیکیٹ کے چارجز
- 20- سی ڈی آر کی منسوخی کے چارجز
- 21- بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ
- 22- بذریعہ پریم سسٹم تیسرے فریق کے فنڈز منتقلی کا تصفیہ
- کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور اس سے زیادہ
- پیر تا جمعہ صبح 9:00 سے دوپہر 1:30 بجے
- دوپہر 1:30 سے سہ پہر 3:00 بجے
- سہ پہر 3:00 سے شام 4:00 بجے
- کم قیمت کی حد 100,000 روپے
- پیر تا جمعہ صبح 9:00 سے شام 4:30 بجے
- نوٹ: مزید ہدایات آنے تک اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے RTGS چارجز ختم کر دیئے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے PSD سرکل نمبر 2 بتاریخ 2020 کو جاری کئے گئے تھے۔ مستقبل میں لاگو ہونے والے چارجز فوری طور پر مندرجہ بالا کے مطابق لاگو ہونگے۔
- 23- ایکسپریس چیک بک (10 صفحات)
- 24- سرٹیفکیٹ آف بیلنس
- 25- آڈیٹر کے لئے بیلنس کا سرٹیفکیٹ
- 26- پرانے ریکارڈز کے حصول کیلئے
- 27- اسٹیٹ بینک آف پاکستان / نیشنل بینک آف پاکستان / انجینئرنگ (صرف صارف کی درخواست پر) کے چیکس کا اجراء
- 28- SECP آن لائن پورل سروس چارجز
- 29- پروسیڈر نیلازیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر، ایک سال بعد
- 30- ڈوپلیکیٹ پروسیڈر نیلازیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر
- N- لاکر کی سہولیات
- a- سالانہ کرایہ (لاکر کا سالانہ کرایہ موجودہ اور نئے صارفین سے مدت کے آغاز پر پیشگی وصول کیا جائے گا)
- b- لاکر بریکنگ / چابی کی تبدیلی کے چارجز
- c- کرایہ کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں، اگلے کرایے میں اضافہ ہوگا (ادائیگی کی مقررہ تاریخ سے 30 دن کی رعایتی مدت کے ساتھ)۔
- d- مضاربہ کے تحت کی ڈپازٹ
- 750 روپے فی انسٹرکشن
- 850 روپے یا اکاؤنٹ میں 850 سے کم جتنی بھی ہو
- 350 روپے فی انسٹرکشن علاوہ ترسیلات زر چارجز
- 450 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 35 روپے
- فی 6 ماہ 35 روپے اضافی
- مفت
- 850 روپے یا اکاؤنٹ میں 850 سے کم جتنی بھی ہو
- کوئی چارجز نہیں
- 150 روپے فی چیک
- 100 روپے
- اصل
- 30 روپے فی لیف (چیک بک کے معاوضے سے استثنیٰ کیلئے صارف کو اپنا اوسط ماہانہ بیلنس 25000 روپے پینٹین کرنا ہوگا)
- اصل
- 375 روپے فی سرٹیفکیٹ
- مفت
- 850 روپے فی انسٹرکشن
- انفرادی اور سول پروپرائٹرز شپ اکاؤنٹس کیلئے 245 روپے فی ماہ
- انٹائی اکاؤنٹس کیلئے 450 روپے فی ماہ
- کوئی چارجز نہیں
- 300 روپے
- کوئی چارجز نہیں
- 350 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 220 روپے
- 330 روپے
- 550 روپے
- 50 روپے فی ٹرانزیکشن (زیادہ سے زیادہ 10 ایمینٹ انسٹرکشنز بھیجی جاتی ہیں ایک ایم ٹی 102 میسج کے ذریعے)
- 375 روپے
- 500 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 500 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 1 سال تک 500 روپے
- 2 سال تک 600 روپے
- 3 سال تک 700 روپے
- 3 سال سے زیادہ 1000 روپے
- 500 روپے
- پرائیویٹ کمپنیز 1100 روپے، پبلک کمپنیز 2000 روپے
- 500 روپے
- 700 روپے
- چھوٹے لاکر کے لیے 7000 روپے
- درمیانے لاکر کے لیے 9000 روپے
- بڑے لاکر کے لیے 12000 روپے
- اصل
- چھوٹے لاکر کے لیے 750 روپے اور بڑے لاکر کے لیے 950 روپے
- چھوٹے لاکر کے لیے 60,000 روپے، درمیانے کے لیے 70,000 روپے اور بڑے لاکر کے لیے 100,000 روپے

متبادل ترسیل چینل (اے ڈی سی)

A۔ فنڈز منتقل کرنے کی سہولت

انٹربینک فنڈز ٹرانسفر بذریعہ اے ٹی ایم / انٹرنیٹ / موبائل بینکنگ

مفت آئی بی ایف ٹی۔ 25,000 روپے تک فی مہینہ / فی اکاؤنٹ۔
25,000 روپے ماہانہ سے زائد اضافی رقم کیلئے / فی اکاؤنٹ، لین دین کی رقم کا 0.1 فیصد
یا 200 روپے، جو بھی کم ہو چارج کیا جائے گا۔

B۔ اے ٹی ایم

a۔ اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

b۔ اے ٹی ایم سوچ ٹرانزیکشنز

(i) دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر

(ii) مقامی بینکس کی معلوم کرنے کے چارجز

(iii) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آف نیٹ)

(iv) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آن نیٹ)

C۔ ویزہ ڈیپٹ کارڈ

a۔ سالانہ / متبادل کی فیس۔ بنیادی

سگنچر کارڈ کیلئے 22000 روپے، پلاٹینیم کارڈ کیلئے 9000 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے
4500 روپے، سلور کارڈ کیلئے 3700 روپے
نوٹ: سگنچر اکاؤنٹ کیلئے سگنچر کارڈ پر ماہانہ 1800 روپے چارج کیا جائے گا۔
تیس (30) لاکھ روپے ماہانہ اوسط بینکس برقرار رکھنے والے اکاؤنٹ سے سگنچر کارڈ
چارجز کے ماہانہ 1800 پاکستانی روپے وصول نہیں کیے جائیں گے
سگنچر کارڈ کیلئے 22000 روپے، پلاٹینیم کارڈ کیلئے 6500 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے
3500 روپے، سلور کارڈ کیلئے 2700 روپے
ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد یا 300 روپے جو زیادہ ہو

b۔ سالانہ / متبادل کی فیس۔ ضمنی

c۔ اے ٹی ایم بین الاقوامی کیش وڈرل

d۔ مقامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر چارجز

e۔ بین الاقوامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر چارجز

f۔ مقامی سطح پر وصولی کی درخواست پر چارجز

g۔ بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

h۔ بین الاقوامی سطح پر بینکس انکوائری چارجز

i۔ ویزا آر بیٹریشن چارجز

j۔ بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای۔ کامرس ٹرانزیکشن

اصل

اصل

اصل

اصل

300 روپے

اصل

ٹرانزیکشن کی رقم پر 4.50 فیصد

D۔ موبائل بینکنگ

موبائل بینکنگ پن کا دوبارہ اجراء

مفت

E۔ چائنایونین پے

a۔ سالانہ / متبادل کی فیس۔ بنیادی

b۔ سالانہ / متبادل کی فیس۔ ضمنی

c۔ بین الاقوامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرل

d۔ بین الاقوامی سطح پر بینکس انکوائری

e۔ بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای۔ کامرس ٹرانزیکشن

f۔ مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز

g۔ بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز

h۔ مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

i۔ بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

3000 روپے

2000 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد یا 300 روپے جو زیادہ ہو

300 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم پر 4.50 فیصد

اصل

اصل

اصل

اصل

F ٹیلیٹی ہلز اور دیگر ادائیگیوں پر چارجز

a ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت

25 روپے

i۔ ہر کامیاب ٹرانزیکشن پر

G پے پاک

a۔ سالانہ/متبادل کی فیس

2750 روپے

اصل

b۔ لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز

اصل

c۔ لوکل ریٹریول درخواست کے چارجز

نوٹ*۔ پے پاک ڈیبٹ کارڈ کے مفت اجراء/سالانہ تجدید کی فیس کے لئے، صارف کا اکاؤنٹ کھلنے کے بعد اگلے کیلنڈر ماہ میں۔/25,000 روپے اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، درج ذیل کے مطابق:

i۔ نئے اکاؤنٹ ہولڈرز، کسی پی یو سے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد اگلے کیلنڈر ماہ میں۔/25,000 روپے اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔ جب اکاؤنٹ سی پی یو سے کھلے گا (جب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ذریعے درخواست شروع کی جائے گی تو یہ قابل اطلاق ہوگا)۔

ii۔ موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پچھلے کیلنڈر مہینے میں 25,000 ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، اگر سی پی یو سے درخواست پر کارروائی کے بعد پچھلے مہینے (یعنی 30 دن) کی مدت پوری نہیں ہوتی ہے تو اگلے کیلنڈر مہینے میں ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھا جانا چاہیے۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب الیکٹرانک درخواست فارم / کال سینٹر کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست کی جائے گی۔)

iii۔ پے پاک ڈیبٹ کارڈ چارجز ان اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں بینک نے چارجز سے استثنیٰ دیا ہو۔

H ایف سی وائی ڈیبٹ کارڈ

a سالانہ/متبادل۔ پرائمری

یو ایس ڈالر 14

b انٹرنیشنل اے ٹی ایم کیش وڈرل

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد یا 3 یو ایس ڈالر جو بھی زیادہ ہو

c انٹرنیشنل بیلنس انکوائری

یو ایس ڈالر 1

d امرس ٹرانزیکشن

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد

کنز یومر بیکنگ پروڈکٹس

A آؤٹ فنانسنگ کی سہولت (اپنی کارڈی ایم)

7000 روپے فلیٹ

a۔ پروسیسنگ فیس نئی/ری کنڈیشن اور استعمال شدہ گاڑیاں

b۔ (پوری/جزوی) پونٹ (پونٹس) کی جلد خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ اپنی کارڈ

c۔ پونٹ (پونٹس) کی تاخیر سے خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ

d۔ چیکس کے بغیر ادائیگی/ واپس ہونے پر چارجز

850 روپے فی کیس

e۔ قبضے میں لئے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)

100,000 روپے یا اصل جو بھی کم ہو

اصل

f۔ گاڑی کے دوبارہ قبضے کی تشخیص کے چارجز

اصل

g۔ قانونی نوٹس کے چارجز

کوئی چارجز نہیں

h۔ پرسنل حادثاتی انشورنس/بکفل

اصل

i۔ گاڑی کے معائنے/تشخیص کے چارجز

اصل

j۔ گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورٹیز ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر)

اصل پر جہاں لاگو ہو

اصل

k۔ ونیر ہاؤس چارجز

l۔ قانونی دستاویزات اور اسٹامپ ڈیوٹی چارج

B گورنمنٹ سبڈی اسکیم (GMSS) ہاؤسنگ فنانس کیلئے (میرپاکستان میرا گھر)

- پروسیڈنگ فیس 5000 روپے
 - یونٹ (یونٹس) کی جلد خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ (پوری/جزوی) کوئی نہیں
 - تاخیر سے یونٹ (یونٹس) کی خریداری پر قیمت میں اضافہ یونٹ (یونٹس) کی فی تاخیر خریداری 1200 روپے
 - چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز 850 روپے
 - جائیداد کی قیمت کے تخمینے کے چارجز اصل
 - وکیل کی فیس اصل
 - آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس اصل
 - دستاویزات/اسٹیٹمنٹ چارجز اصل
 - کوریر چارجز (فارن) اصل
- C ہاؤسنگ فنانس فیسلٹی (بشمول کیٹیگری II کے تحت رینو ایبل انرجی سولوشنز کے لیے، فنانسنگ انفرادی افراد کے لیے)

- پروسیڈنگ فیس 12000 روپے
 - یونٹ کی جلد خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ (مکمل/جزوی) کوئی نہیں
 - یونٹ (یونٹس) کی تاخیر سے خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ یونٹ (یونٹس) کی فی تاخیر خریداری 1200 روپے
 - واپس ہو جانے والے چیک کے چارجز 850 روپے فی کیس
 - جائیداد کے معائنے/تثقیص کے چارجز اصل
 - وکیل کی فیس اصل
 - آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس اصل
 - دستاویزات/اسٹیٹمنٹ چارجز اصل
 - کوریر چارجز (فارن) اصل
- D موٹر سائیکل فنانس کی سہولت

- پراسیڈنگ فیس کوئی نہیں
- (مکمل/جزوی) یونٹ (یونٹس) کی جلد خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ کوئی نہیں
- یونٹ (یونٹس) کی تاخیر سے خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ 400 روپے یونٹ (یونٹس) کی فی تاخیر خریداری پر
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز 850 روپے فی کیس
- دوبارہ قبضے میں لیے جانے پر چارجز (اندرون و بیرون شہر) اصل
- دوبارہ قبضہ کی گئی گاڑیوں کی تثقیص/معائنے کے چارجز اصل
- مقدمہ بازی/قانونی چارجز اصل
- اضافی یونٹس کی خریداری کوئی نہیں
- گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) اصل
- وئیر ہاؤس چارجز اصل جہاں قابل اطلاق ہو
- دستاویزی چارجز اصل

E. الیکٹرک بانکیس کے لیے کاسٹ شیئرنگ اسکیم (مساومہ کے تحت):

- a. پراسینگ فیس
- b. قبل از وقت ادائیگی کے چارجز (مکمل یا جزوی)
- c. اقساط کی تاخیر پر چارجز (چیریٹی)
- d. چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- e. دوبارہ قبضہ لیے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
- f. دوبارہ قبضہ کی گئی گاڑیوں کی تشخیص/معائنے کے چارجز
- g. قانونی کارروائی/مقدمہ بازی کے چارجز
- h. گاڑی کی رجسٹریشن، ٹرانسفر، یا سکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR) کے چارجز
- i. ویزہاؤس چارجز
- j. قانونی دستاویزات اور اسٹامپ ڈیوٹی کے چارجز

کوئی نہیں
کوئی نہیں
فی تاخیر شدہ قسط پر 400 روپے
فی کیس 850 روپے
اصل
اصل
اصل
اصل
جہاں لاگو ہوں، اصل
اصل

F. حکومتی مارک اپ سبسڈی اور رسک شیئرنگ اسکیم برائے سستے رہائشی فنانس (میرا گھر میرا آشیانہ)

- a. پراسینگ فیس
- b. نوٹس کی قبل از وقت خریداری (مکمل یا جزوی) کی صورت میں اضافی قیمت
- c. نوٹس کی خریداری میں تاخیر کی صورت میں اضافی قیمت
- d. چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- e. جائیداد کے چارجز معائنے/تشخیص چارجز
- f. وکیل کی فیس
- g. آمدنی کے تخمینے کے چارجز
- h. قانونی دستاویزات اور اسٹامپ ڈیوٹی کے چارجز

کوئی نہیں
کوئی نہیں
فی تاخیر شدہ یونٹ پر 1200 روپے
فی کیس 850 روپے
اصل
اصل
اصل
اصل

G. وزیراعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم (PMYB&ALS)

- مساومہ کے تحت ٹیئر 4 کی شمولیت
- (لیپ ٹاپ فنانس) صرف ایچ ای سی سے منظور شدہ اداروں کے طلبہ کے لیے
- a. پراسینگ چارجز (اپ فرنٹ مساومہ منافع)
 - b. قبل از وقت ادائیگی کے چارجز (مکمل یا جزوی)
 - c. اقساط کی تاخیر پر چارجز (چیریٹی)
 - d. قانونی کارروائی/مقدمہ بازی کے چارجز
 - e. قانونی دستاویزات اور اسٹامپ ڈیوٹی کے چارجز

100 روپے
کوئی نہیں
فی تاخیر شدہ یونٹ پر 1200 روپے
اصل
اصل

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے عائد کردہ تمام ٹیکسز/ایکسائز ڈیوٹی/ودہولڈنگ ٹیکس/ایف ای ڈی وغیرہ، جہاں قابل اطلاق ہو، صارفین سے عمومی چارجز کے ساتھ اضافی طور پر وصول کیے جائیں گے۔
- بینک یا عملے کی غلطی کی وجہ سے عائد کردہ چارجز واپس کیے جائیں گے۔
- بینک ہر کسی کیس کی بنیاد پر چارجز سے دستبردار ہو سکتا ہے/چارجز کم کر سکتا ہے جس کا انحصار کاروبار کے حجم پر ہے۔

GEM - ٹیرف شیڈیول

انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 1400 روپے			GEM(a) اکاؤنٹ اوپننگ (انفرادی)
کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 5,000 روپے			GEM(b) اکاؤنٹ اوپننگ (کارپوریٹ)
3 پیسہ یا 0.15 فیصد جو بھی زیادہ ہو			(c) بروکر چارجز
(ہر خرید و فروخت کے لین دین پر)			GEM(d) فیسیلیٹیشن چارجز
زیادہ سے زیادہ	کم از کم	سیکیورٹی ریٹ	
(روپے میں)	(روپے میں)	کمیشن (شرح)	
0.15	0.01	0.10 فیصد	199.99 تک
0.30	0.15	0.075 فیصد	200 سے 399.99
0.50	0.30	0.05 فیصد	400 سے زیادہ
شیئرز کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ			(e) کسٹومڈیل چارجز
برائے سکوک 0.1000 فیصد سالانہ			
رائٹس کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ			
شیئرز کے لئے 0.10 روپے فی شیئر			(f) نکلوانے کے چارجز
برائے سکوک کے لئے 50 روپے فی یونٹ			نکلوانے کی فیس (سی ڈی سی چارجز)
رائٹس کے لئے 0.10 روپے فی رائٹ			
رائٹ انٹیکلمنٹ ڈپازٹ			
شیئرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیئر/یونٹ/رائٹ			نکلوانے کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)
شیئرز کے لئے 0.01 روپے فی شیئر			(g) جمع کروانے کے چارجز
برائے سکوک 0.01 روپے فی یونٹ			ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)
رائٹس کے لئے 0.01 روپے فی رائٹ			
شیئرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیئر/یونٹ/رائٹ			ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)
شیئرز کے لئے 0.010 فیصد فی شیئر			(h) شیئرز کی منتقلی کے چارجز ان/آؤٹ
(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی)			
شیئرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیئر			(i) شیئرز پلج فیس

(j) NCCPL چارجز 0.0025 فیصد فی شیئر
(k) گورنمنٹ ڈیبٹ سیکیورٹیز (جی ڈی ایس) (شریعہ کے مطابق) (پرائمری مارکیٹ نیلامی کی رقم کا 0.1 فیصد
نیلامی چارجز)

چارجز وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں بینک شیڈول آف چارجز کے مطابق اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان پر عمل کرے۔
تمام چارجز ناقابل واپسی ہیں جب تک کے بینک اس کے برعکس ظاہر نہ کرے۔
* لاگو حد 3 پیسہ فی حصص یا 0.15% سودے کی رقم پر جو بھی زیادہ ہو 2.5% تک اوپر ظاہر کئے گئے سودوں کی رقم کا۔

550 روپے (تعلیمی اداروں/ہائر ایجوکیشن کمیشن/بورڈز وغیرہ کے نام بینکرز چیک/ڈی ڈی/ادائیگی کیلئے دیگر متعلقہ انسٹرومنٹس کی کوئی فیس/واجبات، نہیں ہے) بینکرز چیک چارجز میں رعایت حاصل کرنے کے لیے صارفین کو اوسط ماہانہ 25000 روپے کا بیننس برقرار رکھنا ضروری ہے 30 روپے فی لیف (چیک بک چارجز میں چھوٹ حاصل کرنے کیلئے، کسٹمرز کو اپنا ماہانہ اوسط بیننس 25000 روپے رکھنا ہوگا۔

ii چیک بک چارجز

iii اسپتلازڈ/اتھارائزڈ چیک بک

iv چیکوں کی اسٹاپ پیمنٹ

v ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)

vi مازم بیننس کے چارجز

vii یوٹیڈی بل/موبائل بل کی ادائیگی

viii بینک الحبيب کے کسی بھی اکاؤنٹ میں فنڈز کی منتقلی

ix انٹرنیٹ بینک فنڈز کی منتقلی بذریعہ اے ٹی ایم/انٹرنیٹ بینکنگ/موبائل بینکنگ (صرف پاکستانی روپیہ اکاؤنٹس کیلئے)

x سی دن کلیرنگ چیک چارجز

xi اکاؤنٹ پیمنٹس سرٹیفکیٹ

xii انٹرنیٹ چیکس کی وصولی بذریعہ این نفٹ

xiii انٹرنیٹ چیک ریٹرن چارجز (بیرونی)

xiv بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ

xv درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا اجرا

(a) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

(ب) 6 ماہ سے زیادہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

xvi بین الاقوامی ڈاک/کوریر/سوفٹ چارجز حسب ذیل وصول کیے جائیں گے:

ڈاک

کوریر

سوفٹ

xvii ویلم پیک ڈیلیوری

xviii آرڈی اے کا کسٹمر نہ ڈیلیور ہونے کی صورت میں چارجز اور کوریئر کی جانب سے ناکمل پیسہ/صارف کی عدم دستیابی کی صورت چارجز

B ترسیلات زر - غیر ملکی

ایرونی

(a) FDD ڈیمانڈ ڈرافٹس

(b) ایف ڈی ٹی

(c) ایف ڈی ڈی کی منسوخی

(d) ایف ڈی ڈی کی اسٹاپ پیمنٹ

III اندرونی

(a) DD/TT/MT

(b) فارن ٹریولرز چیک کا اجرا

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس/کوریر/ڈاک/فیکس/سوفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاقی ہوتا ہو لئے جائیں گے

C - اے ٹی ایم

(a) - اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

کوئی نہیں۔

1 فیصد کمیشن

مفت

(a) مفت - بینک چارجز لاگو ہوں گے۔

(b) مفت - بینک چارجز لاگو ہوں گے۔

(c) 10 امریکی ڈالر

(d) 6 امریکی ڈالر پلس ڈرای بینک چارجز۔ اصل

- (b) اے ٹی ایم سوئچ ٹرانزیکشنز
(i) دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر
(ii) مقامی بینکس انکوائری چارجز
(iii) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آف نیٹ)
(iv) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آن نیٹ)

D۔ ویزہ ڈیٹ کارڈ

a۔ سالانہ/متبادل۔ پرائمری

b۔ سالانہ/متبادل۔ سپلیمنٹری

- (c) بین الاقوامی اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے پر
(d) مقامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(e) بین الاقوامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(f) مقامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(g) بین الاقوامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(h) انٹرنیشنل بینکس انکوائری چارجز
(i) ویزا ٹاشی چارجز

(j) بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
E۔ الحیب اسلامک روشن اپنا گھر (ڈی ایم ہاؤس فنانس فیسلٹی)

- (a)۔ پروسسنگ فیس
(b)۔ یونٹس کی جلد خریداری پر قیمت میں اضافہ (مکمل/جزوی)
(c)۔ یونٹ/یونٹس کی خریداری میں تاخیر کی صورت میں اضافی قیمت
(d)۔ ڈس آنرز/واپس ہونے والے چیک کے چارجز
(e)۔ جائیداد کی تشخیص/تشخیصی چارجز
(f)۔ وکیل کی تشخیص کی فیس
(g)۔ آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس
(h)۔ دستاویزات اور اسٹیٹ ڈیوٹی چارجز
(i)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)

F۔ الحیب اسلامک روشن اپنی کار (ڈی ایم آؤٹ فنانس فیسلٹی)

- (a)۔ پروسسنگ فیس
(b)۔ یونٹس کی جلد خریداری پر قیمت میں اضافہ (مکمل/جزوی)
(c)۔ یونٹ (یونٹس) کی تاخیر سے خریداری کی صورت میں قیمت میں اضافہ
(d)۔ بغیر ادائیگی/واپس شدہ چیکس پر چارجز
(e)۔ دوبارہ قبضے کے چارجز (شہر کے اندر اور باہر)
(f)۔ گاڑی کی تشخیص/تشخیصی چارجز
(g)۔ دوبارہ قبضہ شدہ گاڑیوں کی تشخیص/تشخیصی چارجز
(h)۔ قانونی چارہ جوئی/قانونی چارجز
(i)۔ جلد جزوی ادائیگی
(j)۔ ذاتی حادثاتی بیمہ
(k)۔ گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)
(l)۔ گودام کے چارجز
(m)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)
(n)۔ تصدیقی چارجز
(o)۔ قانونی دستاویزات اور اسٹامپ ڈیوٹی چارج

- 35 روپے فی ٹرانزیکشن
4.67 روپے فی ٹرانزیکشن
4.67 روپے فی ٹرانزیکشن
4.67 روپے فی ٹرانزیکشن

پلاٹنیم کارڈ کیلئے 9000 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 4500 روپے، سلور کارڈ کیلئے

3700 روپے

پلاٹنیم کارڈ کیلئے 6500 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 3500 روپے، سلور کارڈ کیلئے

2700 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم 4.50 فیصد یا 300 روپے جو زیادہ ہو

اصل

اصل

اصل

اصل

300 روپے

اصل

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد

4,000 روپے

ایک سال کے اندر 1 فیصد، اسکے بعد کوئی چارج نہیں

فی تاخیر شدہ یونٹ پر 1200 روپے

نی کیس 850 روپے

اصل

اصل

اصل

اصل

اصل

7,000 روپے فلیٹ

آفر لیٹر میں درج شرائط و ضوابط کے مطابق

یونٹس کی تاخیر سے خریداری پر فی یونٹ 1,200 روپے قیمت میں اضافہ

850 روپے فی کیس

100,000 روپے یا اصل میں جو بھی کم ہو۔

اصل

اصل

اصل

کوئی نہیں

کوئی نہیں

اصل

اصل، جہاں قابل اطلاق ہو۔

اصل

اصل

اصل

نوٹ: اسلامک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں دی گئی سہولتوں کے علاوہ دیگر سہولتوں پر چارجز اسلامک بینکنگ شیڈول آف چارجز کے مطابق لاگو ہوں گے۔

G گیٹ وے ٹوا کیوٹی مارکیٹ (GEM)

GEM (a) اکاؤنٹ کھولنا

(b) بروکر چارجز

GEM (c) فیسیلیٹیشن چارجز

زیادہ سے زیادہ	کم از کم	کمیشن	سیکیورٹی ریٹ
(روپے میں)	(روپے میں)	(فیصد میں)	
0.15	0.01	0.10- فیصد	199.99 تک
0.30	0.15	0.075 فیصد	200-399.99
0.50	0.30	0.05 فیصد	400 سے زیادہ

شیئرز کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

برائے سکوک کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

رائٹس کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

(d) تحویل کے چارجز (مارکیٹ ویلیو)

(e) پیسے نکلوانے کے چارجز

پیسے نکلوانے پر (سی ڈی سی چارجز)

شیئرز کیلئے -0.10 روپے فی شیئر .

برائے سکوک کیلئے - روپے فی یونٹ 50 روپے

رائٹس کیلئے فی رائٹ 0.10 روپے

شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ

واپسی کی پروسیجرنگ فیس (بینک چارجز)

(f) ڈپازٹ چارجز

ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)

شیئرز کے لیے 0.01 روپے فی شیئر

برائے سکوک کے لیے 0.01 روپے فی یونٹ

رائٹس کے لیے 0.01 روپے فی رائٹ

شیئرز/ یونٹس/ رائٹس کیلئے 0.50 روپے فی شیئر/ یونٹ/ رائٹ

شیئرز کے لیے -0.010 فیصد فی شیئر

(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے اور 60,000 روپے ہوگی)

شیئرز کے لیے 0.004 فیصد فی شیئر

0.0025 فیصد فی شیئر

(h) شیئر پلج چارجز

(i) NCCPL چارجز

(j) گورنمنٹ ڈیبٹ سیکیورٹیز (جی ڈی ایس) (شریعہ کے مطابق) (پرائمری مارکیٹ نیلامی کی رقم کا 0.1 فیصد

نیلامی چارجز)

نوٹ: دیگر تمام فیسوں اور چارجز کے لیے، براہ مہربانی ہمارے اسلامک بینک کا شیڈول آف چارجز ملاحظہ کریں۔

قبول کردہ چارجز کا شیڈیول
(اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2026 تا 30 جون 2026
ضمیمہ (انیکٹرز) "اے"

رقم کی حد	تک	فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
500,001.00	800,000.00	1,200.00
800,001.00	1,000,000.00	1,500.00
1,000,001.00	2,000,000.00	3,000.00
2,000,001.00	3,000,000.00	4,500.00
3,000,001.00	4,000,000.00	6,000.00
4,000,001.00	5,000,000.00	7,500.00
5,000,001.00	6,000,000.00	9,000.00
6,000,001.00	7,000,000.00	10,500.00
7,000,001.00	8,000,000.00	12,000.00
8,000,001.00	9,000,000.00	13,500.00
9,000,001.00	10,000,000.00	15,000.00
10,000,001.00	11,000,000.00	16,500.00
11,000,001.00	12,000,000.00	18,000.00
12,000,001.00	13,000,000.00	19,500.00
13,000,001.00	14,000,000.00	21,000.00
14,000,001.00	15,000,000.00	22,500.00
15,000,001.00	16,000,000.00	24,000.00
16,000,001.00	17,000,000.00	25,500.00
17,000,001.00	18,000,000.00	27,000.00
18,000,001.00	19,000,000.00	28,500.00
19,000,001.00	20,000,000.00	30,000.00
20,000,001.00	21,000,000.00	31,500.00
21,000,001.00	22,000,000.00	33,000.00
22,000,001.00	23,000,000.00	34,500.00
23,000,001.00	24,000,000.00	36,000.00
24,000,001.00	25,000,000.00	37,500.00
25,000,001.00	26,000,000.00	39,000.00
26,000,001.00	27,000,000.00	40,500.00
27,000,001.00	28,000,000.00	42,000.00
28,000,001.00	29,000,000.00	43,500.00
29,000,001.00	30,000,000.00	45,000.00
30,000,001.00	31,000,000.00	46,500.00
31,000,001.00	32,000,000.00	48,000.00
32,000,001.00	33,000,000.00	49,500.00
33,000,001.00	34,000,000.00	51,000.00
34,000,001.00	35,000,000.00	52,500.00
35,000,001.00	36,000,000.00	54,000.00
36,000,001.00	37,000,000.00	55,500.00
37,000,001.00	38,000,000.00	57,000.00
38,000,001.00	39,000,000.00	58,500.00
39,000,001.00	40,000,000.00	60,000.00
40,000,001.00	41,000,000.00	61,500.00
41,000,001.00	42,000,000.00	63,000.00
42,000,001.00	43,000,000.00	64,500.00
43,000,001.00	44,000,000.00	66,000.00
44,000,001.00	45,000,000.00	67,500.00
45,000,001.00	46,000,000.00	69,000.00
46,000,001.00	47,000,000.00	70,500.00
47,000,001.00	48,000,000.00	72,000.00
48,000,001.00	49,000,000.00	73,500.00
49,000,001.00	50,000,000.00	75,000.00
50,000,001.00	51,000,000.00	76,500.00
51,000,001.00	52,000,000.00	78,000.00
52,000,001.00	53,000,000.00	79,500.00
53,000,001.00	54,000,000.00	81,000.00
54,000,001.00	55,000,000.00	82,500.00
55,000,001.00	56,000,000.00	84,000.00
56,000,001.00	57,000,000.00	85,500.00
57,000,001.00	58,000,000.00	87,000.00
58,000,001.00	59,000,000.00	88,500.00

قبول کردہ چارجز کا شیڈیول
(اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2026 تا 30 جون 2026

ضمیمہ (انیکٹر) "اے"

رقم کی حد		فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
سے	تک	
59,000,001.00	60,000,000.00	90,000.00
60,000,001.00	61,000,000.00	91,500.00
61,000,001.00	62,000,000.00	93,000.00
62,000,001.00	63,000,000.00	94,500.00
63,000,001.00	64,000,000.00	96,000.00
64,000,001.00	65,000,000.00	97,500.00
65,000,001.00	66,000,000.00	99,000.00
66,000,001.00	67,000,000.00	100,500.00
67,000,001.00	68,000,000.00	102,000.00
68,000,001.00	69,000,000.00	103,500.00
69,000,001.00	70,000,000.00	105,000.00
70,000,001.00	71,000,000.00	106,500.00
71,000,001.00	72,000,000.00	108,000.00
72,000,001.00	73,000,000.00	109,500.00
73,000,001.00	74,000,000.00	111,000.00
74,000,001.00	75,000,000.00	112,500.00
75,000,001.00	76,000,000.00	114,000.00
76,000,001.00	77,000,000.00	115,500.00
77,000,001.00	78,000,000.00	117,000.00
78,000,001.00	79,000,000.00	118,500.00
79,000,001.00	80,000,000.00	120,000.00
80,000,001.00	81,000,000.00	121,500.00
81,000,001.00	82,000,000.00	123,000.00
82,000,001.00	83,000,000.00	124,500.00
83,000,001.00	84,000,000.00	126,000.00
84,000,001.00	85,000,000.00	127,500.00
85,000,001.00	86,000,000.00	129,000.00
86,000,001.00	87,000,000.00	130,500.00
87,000,001.00	88,000,000.00	132,000.00
88,000,001.00	89,000,000.00	133,500.00
89,000,001.00	90,000,000.00	135,000.00
90,000,001.00	91,000,000.00	136,500.00
91,000,001.00	92,000,000.00	138,000.00
92,000,001.00	93,000,000.00	139,500.00
93,000,001.00	94,000,000.00	141,000.00
94,000,001.00	95,000,000.00	142,500.00
95,000,001.00	96,000,000.00	144,000.00
96,000,001.00	97,000,000.00	145,500.00
97,000,001.00	98,000,000.00	147,000.00
98,000,001.00	99,000,000.00	148,500.00
99,000,001.00	100,000,000.00	150,000.00
Over 100,000,000		Rs. 1,500 per Rs. 1,000,000 each

نوٹس:

- اگر قبول کردہ رقم 500,000 روپے سے کم ہے تو کم از کم چارجز 1,250 روپے ہوں گے۔
- مجاز اتھارٹی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد کلائنٹ کے تجارتی کاروبار کی بنیاد پر اس کے ساتھ بات چیت سے مشروط ہے۔
- قبول کردہ رقم کی شرح کے حوالے سے صارفین کو قبول کردہ چارجز کے بارے میں ہدایات دی جاسکتی ہیں۔ اس شرح کا انحصار مجاز اتھارٹی کی منظوری پر ہے۔

قبول کردہ چارجز کا شیڈیول
(اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2026 تا 30 جون 2026

ضمیمہ (انیکٹور) "اے-1"

رقم کی حد		فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
سے	تک	
500,001.00	800,000.00	800.00
800,001.00	1,000,000.00	1,000.00
1,000,001.00	2,000,000.00	2,000.00
2,000,001.00	3,000,000.00	3,000.00
3,000,001.00	4,000,000.00	4,000.00
4,000,001.00	5,000,000.00	5,000.00
5,000,001.00	6,000,000.00	6,000.00
6,000,001.00	7,000,000.00	7,000.00
7,000,001.00	8,000,000.00	8,000.00
8,000,001.00	9,000,000.00	9,000.00
9,000,001.00	10,000,000.00	10,000.00
10,000,001.00	11,000,000.00	11,000.00
11,000,001.00	12,000,000.00	12,000.00
12,000,001.00	13,000,000.00	13,000.00
13,000,001.00	14,000,000.00	14,000.00
14,000,001.00	15,000,000.00	15,000.00
15,000,001.00	16,000,000.00	16,000.00
16,000,001.00	17,000,000.00	17,000.00
17,000,001.00	18,000,000.00	18,000.00
18,000,001.00	19,000,000.00	19,000.00
19,000,001.00	20,000,000.00	20,000.00
20,000,001.00	21,000,000.00	21,000.00
21,000,001.00	22,000,000.00	22,000.00
22,000,001.00	23,000,000.00	23,000.00
23,000,001.00	24,000,000.00	24,000.00
24,000,001.00	25,000,000.00	25,000.00
25,000,001.00	26,000,000.00	26,000.00
26,000,001.00	27,000,000.00	27,000.00
27,000,001.00	28,000,000.00	28,000.00
28,000,001.00	29,000,000.00	29,000.00
29,000,001.00	30,000,000.00	30,000.00
30,000,001.00	31,000,000.00	31,000.00
31,000,001.00	32,000,000.00	32,000.00
32,000,001.00	33,000,000.00	33,000.00
33,000,001.00	34,000,000.00	34,000.00
34,000,001.00	35,000,000.00	35,000.00
35,000,001.00	36,000,000.00	36,000.00
36,000,001.00	37,000,000.00	37,000.00
37,000,001.00	38,000,000.00	38,000.00
38,000,001.00	39,000,000.00	39,000.00
39,000,001.00	40,000,000.00	40,000.00
40,000,001.00	41,000,000.00	41,000.00
41,000,001.00	42,000,000.00	42,000.00
42,000,001.00	43,000,000.00	43,000.00
43,000,001.00	44,000,000.00	44,000.00
44,000,001.00	45,000,000.00	45,000.00
45,000,001.00	46,000,000.00	46,000.00
46,000,001.00	47,000,000.00	47,000.00
47,000,001.00	48,000,000.00	48,000.00
48,000,001.00	49,000,000.00	49,000.00
49,000,001.00	50,000,000.00	50,000.00

قبول کردہ چارجز کا شیڈیول
(اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2026 تا 30 جون 2026

ضمیمہ (اینکیزر) "اے-1"

رقم کی حد	نفاذ	فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
سے	تک	
50,000,001.00	51,000,000.00	51,000.00
51,000,001.00	52,000,000.00	52,000.00
52,000,001.00	53,000,000.00	53,000.00
53,000,001.00	54,000,000.00	54,000.00
54,000,001.00	55,000,000.00	55,000.00
55,000,001.00	56,000,000.00	56,000.00
56,000,001.00	57,000,000.00	57,000.00
57,000,001.00	58,000,000.00	58,000.00
58,000,001.00	59,000,000.00	59,000.00
59,000,001.00	60,000,000.00	60,000.00
60,000,001.00	61,000,000.00	61,000.00
61,000,001.00	62,000,000.00	62,000.00
62,000,001.00	63,000,000.00	63,000.00
63,000,001.00	64,000,000.00	64,000.00
64,000,001.00	65,000,000.00	65,000.00
65,000,001.00	66,000,000.00	66,000.00
66,000,001.00	67,000,000.00	67,000.00
67,000,001.00	68,000,000.00	68,000.00
68,000,001.00	69,000,000.00	69,000.00
69,000,001.00	70,000,000.00	70,000.00
70,000,001.00	71,000,000.00	71,000.00
71,000,001.00	72,000,000.00	72,000.00
72,000,001.00	73,000,000.00	73,000.00
73,000,001.00	74,000,000.00	74,000.00
74,000,001.00	75,000,000.00	75,000.00
75,000,001.00	76,000,000.00	76,000.00
76,000,001.00	77,000,000.00	77,000.00
77,000,001.00	78,000,000.00	78,000.00
78,000,001.00	79,000,000.00	79,000.00
79,000,001.00	80,000,000.00	80,000.00
80,000,001.00	81,000,000.00	81,000.00
81,000,001.00	82,000,000.00	82,000.00
82,000,001.00	83,000,000.00	83,000.00
83,000,001.00	84,000,000.00	84,000.00
84,000,001.00	85,000,000.00	85,000.00
85,000,001.00	86,000,000.00	86,000.00
86,000,001.00	87,000,000.00	87,000.00
87,000,001.00	88,000,000.00	88,000.00
88,000,001.00	89,000,000.00	89,000.00
89,000,001.00	90,000,000.00	90,000.00
90,000,001.00	91,000,000.00	91,000.00
91,000,001.00	92,000,000.00	92,000.00
92,000,001.00	93,000,000.00	93,000.00
93,000,001.00	94,000,000.00	94,000.00
94,000,001.00	95,000,000.00	95,000.00
95,000,001.00	96,000,000.00	96,000.00
96,000,001.00	97,000,000.00	97,000.00
97,000,001.00	98,000,000.00	98,000.00
98,000,001.00	99,000,000.00	99,000.00
99,000,001.00	100,000,000.00	100,000.00
Over 100,000,000		Rs. 1,000 per Rs. 1,000,000 each

نوٹس:

1. اگر قبول کردہ رقم 500,000 روپے سے کم ہے تو کم از کم چارجز 500 روپے ہوں گے۔
2. مجازاتھارٹی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد کلائنٹ کے تجارتی کاروبار کی بنیاد پر اُس کے ساتھ بات چیت سے مشروط ہے۔
3. قبول کردہ رقم کی شرح کے حوالے سے صارفین کو قبول کردہ چارجز کے بارے میں ہدایات دی جاسکتی ہیں۔ اس شرح کا انحصار مجازاتھارٹی کی منظوری پر ہے۔

ضمانت کردہ چارجز کا شیڈیول (اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2026 تا 30 جون 2026

ضمیمہ (انیکٹر) "بی-1"

رقم کی حد	نکتہ	فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ
Amount Upto	500,000.00	3,000.00
500,001.00	800,000.00	4,800.00
800,001.00	1,000,000.00	6,000.00
1,000,001.00	1,500,000.00	9,000.00
1,500,001.00	2,000,000.00	12,000.00
2,000,001.00	2,500,000.00	15,000.00
2,500,001.00	3,000,000.00	18,000.00
3,000,001.00	3,500,000.00	21,000.00
3,500,001.00	4,000,000.00	24,000.00
4,000,001.00	4,500,000.00	27,000.00
4,500,001.00	5,000,000.00	30,000.00
5,000,001.00	5,500,000.00	33,000.00
5,500,001.00	6,000,000.00	36,000.00
6,000,001.00	6,500,000.00	39,000.00
6,500,001.00	7,000,000.00	42,000.00
7,000,001.00	7,500,000.00	45,000.00
7,500,001.00	8,000,000.00	48,000.00
8,000,001.00	8,500,000.00	51,000.00
8,500,001.00	9,000,000.00	54,000.00
9,000,001.00	9,500,000.00	57,000.00
9,500,001.00	10,000,000.00	60,000.00
10,000,001.00	12,500,000.00	75,000.00
12,500,001.00	15,000,000.00	90,000.00
15,000,001.00	17,500,000.00	105,000.00
17,500,001.00	20,000,000.00	120,000.00
20,000,001.00	22,500,000.00	135,000.00
22,500,001.00	25,000,000.00	150,000.00
25,000,001.00	27,500,000.00	165,000.00
27,500,001.00	30,000,000.00	180,000.00
30,000,001.00	32,500,000.00	195,000.00
32,500,001.00	35,000,000.00	210,000.00
35,000,001.00	37,500,000.00	225,000.00
37,500,001.00	40,000,000.00	240,000.00
40,000,001.00	42,500,000.00	255,000.00
42,500,001.00	45,000,000.00	270,000.00
45,000,001.00	47,500,000.00	285,000.00
47,500,001.00	50,000,000.00	300,000.00
50,000,001.00	52,500,000.00	315,000.00
52,500,001.00	55,000,000.00	330,000.00
55,000,001.00	57,500,000.00	345,000.00
57,500,001.00	60,000,000.00	360,000.00
60,000,001.00	62,500,000.00	375,000.00
62,500,001.00	65,000,000.00	390,000.00
65,000,001.00	67,500,000.00	405,000.00
67,500,001.00	70,000,000.00	420,000.00
70,000,001.00	72,500,000.00	435,000.00
72,500,001.00	75,000,000.00	450,000.00
75,000,001.00	77,500,000.00	465,000.00
77,500,001.00	80,000,000.00	480,000.00
80,000,001.00	82,500,000.00	495,000.00
82,500,001.00	85,000,000.00	510,000.00
85,000,001.00	87,500,000.00	525,000.00
87,500,001.00	90,000,000.00	540,000.00
90,000,001.00	92,500,000.00	555,000.00
92,500,001.00	95,000,000.00	570,000.00
95,000,001.00	97,500,000.00	585,000.00
97,500,001.00	100,000,000.00	600,000.00

نوٹس:

- 100 ملین روپے سے زائد تمام ضمانتی رقوم پر ہر 1 ملین روپے کے لیے اضافی سروس چارجز 6000 روپے لاگو ہوں گے (فی سہ ماہی یا اس کا حصہ)
- صارف کے لئے مندرجہ بالا چارجز پر رعایت، مجاز اتھارٹی کی منظوری سے مشروط ہے۔
- صارفین کو ضمانت کے چارجز ضمانتی رقوم کی شرح کے اعتبار سے بھی بتائے جاسکتے ہیں۔ اس شرح کا انحصار مجاز اتھارٹی کی منظوری پر ہے۔
- دی گئی ضمانت پر کمیشن صرف اجراء کے وقت وصول کیا جائے گا۔

ضمانت کردہ چارجز کا شیڈیول (اسلامک بینکنگ)

یکم جنوری 2026 تا 30 جون 2026

ضمیمہ (اینکڑ) "بی-2"

فی ماہانہ چارجز یا اس کا حصہ	نکتہ	رقم کی حد
2,250.00	500,000.00	Amount Upto
3,600.00	800,000.00	500,001.00
4,500.00	1,000,000.00	800,001.00
6,750.00	1,500,000.00	1,000,001.00
9,000.00	2,000,000.00	1,500,001.00
11,250.00	2,500,000.00	2,000,001.00
13,500.00	3,000,000.00	2,500,001.00
15,750.00	3,500,000.00	3,000,001.00
18,000.00	4,000,000.00	3,500,001.00
20,250.00	4,500,000.00	4,000,001.00
22,500.00	5,000,000.00	4,500,001.00
24,750.00	5,500,000.00	5,000,001.00
27,000.00	6,000,000.00	5,500,001.00
29,250.00	6,500,000.00	6,000,001.00
31,500.00	7,000,000.00	6,500,001.00
33,750.00	7,500,000.00	7,000,001.00
36,000.00	8,000,000.00	7,500,001.00
38,250.00	8,500,000.00	8,000,001.00
40,500.00	9,000,000.00	8,500,001.00
42,750.00	9,500,000.00	9,000,001.00
45,000.00	10,000,000.00	9,500,001.00
56,250.00	12,500,000.00	10,000,001.00
67,500.00	15,000,000.00	12,500,001.00
78,750.00	17,500,000.00	15,000,001.00
90,000.00	20,000,000.00	17,500,001.00
101,250.00	22,500,000.00	20,000,001.00
112,500.00	25,000,000.00	22,500,001.00
123,750.00	27,500,000.00	25,000,001.00
135,000.00	30,000,000.00	27,500,001.00
146,250.00	32,500,000.00	30,000,001.00
157,500.00	35,000,000.00	32,500,001.00
168,750.00	37,500,000.00	35,000,001.00
180,000.00	40,000,000.00	37,500,001.00
191,250.00	42,500,000.00	40,000,001.00
202,500.00	45,000,000.00	42,500,001.00
213,750.00	47,500,000.00	45,000,001.00
225,000.00	50,000,000.00	47,500,001.00
236,250.00	52,500,000.00	50,000,001.00
247,500.00	55,000,000.00	52,500,001.00
258,750.00	57,500,000.00	55,000,001.00
270,000.00	60,000,000.00	57,500,001.00
281,250.00	62,500,000.00	60,000,001.00
292,500.00	65,000,000.00	62,500,001.00
303,750.00	67,500,000.00	65,000,001.00
315,000.00	70,000,000.00	67,500,001.00
326,250.00	72,500,000.00	70,000,001.00
337,500.00	75,000,000.00	72,500,001.00
348,750.00	77,500,000.00	75,000,001.00
360,000.00	80,000,000.00	77,500,001.00
371,250.00	82,500,000.00	80,000,001.00
382,500.00	85,000,000.00	82,500,001.00
393,750.00	87,500,000.00	85,000,001.00
405,000.00	90,000,000.00	87,500,001.00
416,250.00	92,500,000.00	90,000,001.00
427,500.00	95,000,000.00	92,500,001.00
438,750.00	97,500,000.00	95,000,001.00
450,000.00	100,000,000.00	97,500,001.00

- نوٹس : 100.1 ملین روپے سے زائد تمام ضمانتی رقوم پر ہر 1 ملین روپے کے لیے اضافی چارجز 4000 روپے لاگو ہوں گے (فی سہ ماہی یا اس کا حصہ)
2. صارف کے لئے مندرجہ بالا چارجز پر رعایت، مجاز اتھارٹی کی منظوری سے مشروط ہے۔
3. صارفین کو ضمانت کے چارجز ضمانتی رقوم کی شرح کے اعتبار سے بھی بتائے جاسکتے ہیں۔ اس شرح کا انحصار مجاز اتھارٹی کی منظوری پر ہے۔
4. دی گئی ضمانت پر کمیشن صرف اجراء کے وقت وصول کیا جائے گا۔